



وہ باتیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہئیں نیو جرسی میں عمر کی بنیاد پر تفریق ک خلاف تحفظ

5

- 1 **تفریق کے خلاف نیو جرسی کا قانون (LAD) عمومی طور پر تفریق و ہراسانی کو ممنوعہ قرار دیتا ہے، یعنی ایمپلائرز اور مزدور تنظیموں کی جانب سے عمر کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محدود حالات کے علاوہ کوئی ایمپلائر کسی شخص کو عمر کی بنیاد پر بھرتی کرنے یا ترقی دینے سے انکار، ملازمت سے فارغ، کم تنخواہ کی ادائیگی نہیں کر سکتا اور کوئی یونین اس بنیاد پر کسی کو خارج یا الگ نہیں کر سکتی (ایمپلائرز 70 سال سے زائد عمر کے فرد کو بھرتی کرنے یا ترقی دینے سے انکار کر سکتے ہیں)۔**
- 2 **اگرچہ ملازمت میں عمر کی بنیاد پر تفریق کے وفاقی قانون (ADEA) میں صرف 40 سال سے زائد عمر کے افراد کا احاطہ کیا گیا ہے، LAD ہر عمر میں عمر کی بنیاد پر تفریق کو ممنوعہ قرار دیتا ہے۔ تو اگر کسی 38 سالہ شخص کو ملازمت دینے سے انکار کرتے ہوئے کسی بیس پچیس سال کے فرد کو اس لئے نوکری دے دی جاتی ہے کیوں کہ ایمپلائر "نوجوان وضع" ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو وہ شخص LAD کے تحت عمر کی بنیاد پر تفریق کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ LAD ایمپلائرز کی جانب سے اہل افراد کو صرف اس بنیاد پر ملازمت دینے سے انکار کرنا بھی ممنوعہ قرار دیتا ہے کہ وہ ان کی عمر کو "بہت کم" سمجھتے ہوں، ماسوائے یہ کہ ان کی عمر 18 سال سے کم ہو۔**
- 3 **ایمپلائرز کسی شخص کو صرف اس بنیاد پر ترقی دینے سے انکار نہیں کر سکتے کیوں کہ ان کے خیال میں اس شخص کو جلد ریٹائر ہو جانا چاہیے یا ایسا اشتہار نہیں دے سکتے جس میں "نوجوان" ملازمین کے لئے ترجیح کا اظہار کیا گیا ہو۔ اور اگر کسی ایمپلائر کو معلوم ہو یا معلوم ہونا چاہیے ہو کہ کسی شخص کو اس کی عمر کی بنیاد پر اس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے جس سے ملازمت کا ماحول کشیدہ ہو رہا ہے تو اسے ہراسانی کو روکنے کے لئے منطقی اقدامات کرنے ہوں گے۔**
- 4 **مزید برآں، رہائش فراہم کنندگان عام طور پر کسی کو اس بنیاد پر پراپرٹی کرایے یا لیز پر دینے سے انکار نہیں کر سکتے کہ ان کے بچوں کی عمریں 18 سال سے کم ہیں۔ تاہم اس اصول میں بزرگ افراد کے لئے متعین رہائش گاہوں کے لئے استثنیٰ موجود ہے، جیسے ایسی رہائش گاہ جو کم از کم 55 سال کی عمر کے افراد کے لئے مقصود ہو۔**
- 5 **ان حقوق یا LAD کے تحت کسی دیگر حق کا استعمال کرنے یا استعمال کرنے کی کوشش کرنے والے کسی شخص سے بدلہ لینا غیر قانونی عمل ہے۔**

مزید جاننے یا شکایت درج کروانے کے لئے NJCivilRights.gov پر جائیں یا [1.833.NJDCR4U](tel:1.833.NJDCR4U) پر کال کریں



NJ Office of the Attorney General

NJCivilRights.gov



DIVISION ON
NJ CIVIL RIGHTS
@CivilRightsNJ #CivilRightsNJ #StandUpAgainstHate



03/05/21